



AshShams

الشمس

الشمس

In the name of Allah,
Most Gracious, Most
Merciful.

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان
نہایت رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. By the sun and its
brightness.

قسم ہے سورج کی اور اسکی روشنی کی۔

وَالشَّمْسِ وَضُحٰیهَا ۝۱

2. And the moon when
it follows it.

اور چاند کی جب وہ اسکے پیچھے چلے۔

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰہَا ۝۲

3. And the day
when it shows up its
brightness.

اور دن کی جب وہ اسے روشن کر
دے۔

وَالنَّہَارِ اِذَا جَلَّہَا ۝۳

4. And the night when
it covers it up.

اور رات کی جب وہ اسے چھپالے۔

وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشٰہَا ۝۴

5. And the heaven
and He who built it.

اور آسمان کی اور وہ جننے اسے بنایا۔

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰہَا ۝۵

6. And the earth
and He who spread it.

اور زمین کی اور وہ جننے اسے پھیلا یا۔

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰہَا ۝۶

7. And the human
soul and He who
proportioned it.

اور نفس انسانی کی اور وہ جس نے
اسے درست کیا۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰہَا ۝۷

8. Then inspired it
with its wickedness
and its righteousness.

پھر الہام کیا اسکو اسکی بدکاری اور اسکی
پرہیزگاری۔

فَاَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوٰیہَا ۝۸

9. Truly successful
is he who purified it.

بیشک وہ فلاح پا گیا جننے اسکو پاک کیا۔

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰہَا ۝۹

10. And truly failed he who corrupted it.

اور بیشک وہ نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ط

11. Denied Thamud because of their transgression.

جھٹلایا ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا لاص

12. When was sent forth the most wretched of them.

جب بھیجا گیا ان کا نہایت بدبخت۔

إِذْ أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا لاص

13. Then spoke to them, the messenger of Allah: “(It is) the she camel of Allah and (do not stop) her drink.”

تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے (یہ ہے) اللہ کی اونٹنی اور (مت روکو) اسکا پینا۔

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ط

14. So they denied him, then hamstrung her (she camel), so a destruction was brought down upon them by their Lord for their sin. So He leveled them (by destruction).

تو انہوں نے جھٹلایا اس کو پھر اس (اونٹنی) کو مار ڈالا۔ تو ہلاکت ڈالی انہیں انکے رب نے انکے گناہ کے سبب۔ تو اس نے برابر کر دیا ان کو (نہایت و نابود کر کے)۔

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا لاص فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ص

15. And He fears not the consequences thereof.

اور نہیں خوف ہوتا اسے اسکے انجام سے۔

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ع

